

Habib Bank Limited,
_____Branch.

Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. It is available in English and Urdu. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. You have the right to receive KFS from other banks for comparison.

Account Types & Salient Features

This information is accurate as of the date above. Services, fees and mark up rates may change Half Yearly (31-12-2025) basis. For updated fees/charges, you may visit our website or visit our branches.

HBL Premium Proposition

Please note that Key Fact Statement for Premium will be applicable over and above a deposit account product subscribed. This deposit account will be termed as 'base account' and Premium tagging will over-ride base account benefits and charges. Key Fact Statement of the base account will also be signed along with Premium Key Fact Statement. For more details regarding HBL Premium, please visit our website www.hbl.com or visit any HBL Premium Touchpoint.

Particulars		Current	Savings
		HBL Premium Current Deposit Accounts	HBL Premium Savings Deposit Accounts
Currency (PKR, USD, EUR, etc.)		PKR, USD, EUR, GBP	PKR, USD, EUR, GBP
Minimum Balance for Account (If any, provide the amount)	To open	PKR 2,000,000 or equivalent foreign currency	PKR 7,000,000 or equivalent foreign currency
	Quarterly Avg Balance	PKR 2,000,000 or equivalent foreign currency	PKR 7,000,000 or equivalent foreign currency
Is profit paid on account (Yes/No) (Subject to the applicable tax rate)		No	Yes
Indicative Profit Rate (%)		Not Applicable	As per Base Account*
Profit Payment Frequency (Daily, Monthly, Quarterly, Half-yearly and Yearly)		Not Applicable	As per Base Account*
Provide example (On each PKR 1000, you can earn PKR ----- on given periodicity)		Not Applicable	As per Base Account*
Premature/EarlyEncashment/Withdrawal Fee (If any, provide amount/rate)		Not Applicable	As per Base Account*

Other criteria/ Assets Under Management (AUM): Mutual Funds - (PKR 20 Mn OR PKR 10 Mn with PKR 1 Mn CA), Single Premium - (PKR 10 Mn), Bancassurance - (PKR 500,000 with PKR 1 Mn CA), Mortgage Financing - (PKR 20 Mn)

*As Per Base Account refers to the deposit account selected in the deposit accounts' Key Fact Statement. Particulars of the same account will be followed.

*** The Premium Account(s) will be downgraded to a regular account(s) if the balance is not maintained in accordance with the Premium Pre-Defined Criteria which is defined here and in SOBC.

****Service Charges**
IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find full list available of all bank charges (SoBC) at our branches, visit our website www.hbl.com or call 111-444-425 HBL 24 hours Premium Phone Banking. Please note that all bank charges are exclusive of applicable taxes.

Services	Modes	Current	Savings
		HBL Premium Current Deposit Accounts	HBL Premium Savings Deposit Accounts
Cash Transaction	Inter-city	0	0
	Intra-city	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Own ATM withdrawal	0	0
	Other Bank ATM	As Per Base Account*	As Per Base Account*
SMS Alerts	ADC/Digital	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Clearing	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	For other Transactions	As Per Base Account*	As Per Base Account*
Debit Cards	Master World	50% Waived	50% Waived
Cheque Book First Free	Issuance	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Stop Payment	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Loose Cheque	As Per Base Account*	As Per Base Account*

*As Per Base Account refers to the deposit account selected in the deposit accounts' Key Fact Statement. Particulars of the same account will be followed.

Services	Modes	Current	Savings
		HBL Premium Current Deposit Accounts	HBL Premium Savings Deposit Accounts
Remittance (Local)	Banker Cheque/Pay Order	0	0
Remittance Foreign	Foreign Demand Draft	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Wire Transfer	As Per Base Account*	As Per Base Account*
Statement of Account	Annual	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Half-yearly	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Duplicate	As Per Base Account*	As Per Base Account*
Funds Transfer	ADC/Digital Channels	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Others	As Per Base Account*	As Per Base Account*
Digital Banking	Internet Banking subscription (onetime & annual)	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Mobile Banking subscription (onetime & annual)	As Per Base Account*	As Per Base Account*
Clearing	Normal	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Inter-city	As Per Base Account*	As Per Base Account*
	Same Day	As Per Base Account*	As Per Base Account*
Closure of Account	Customer Request	As Per Base Account*	As Per Base Account*

You Must Know	
Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and Bank's internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. For more information, you can visit any of our Premium lounges, call our 24-hour Premium helpline at 111-444-425 or log on to www.hbl.com Cheque Bounce: Dishonouring of cheques is a criminal offence under Section 489-F of the Pakistan Penal Code of 1860 and Section 20 of the Financial Institutions (Recoveries Of Finance) Ordinance of 2001; and is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, cheques, Digital banking usernames, passwords; other personal information, (such as DOB, Mother's Maiden Name etc.) is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. HBL never calls you to ask for your personal information from any number including 111-111-425 or 111-444-425. HBL will never ask for your sensitive information (password, debit card #, PIN, CNIC, OTP, CVV) via call, SMS or email. Kindly do not disclose details to anyone. Be extra vigilant and do not provide any sensitive information (PIN/password/CNIC/ATM/credit card #) over the internet, telephone, SMS email, or social media. Record Updation: Always keep profiles/records updated with the Bank to avoid missing any significant communication. You can contact your relevant HBL branch or HBL Premium Touchpoint to update your information, or call 111-444-425 HBL 24 hours Premium Phone Banking or visit www.hbl.com for more details. What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be treated as inactive/ dormant. If your account becomes dormant, you will be unable to execute any debit transaction till the account is activated. To reactivate your account, you can visit any HBL branch with (renewed ID Documents) or call HBL Contact Center 111-444-425 to update records and reactivate your account*. Overseas customer to email at HYPERLINK "mailto:bio.verify@hbl.com" bio.verify@hbl.com to get guidance for reactivation of their account(s). * Customer may still be required to visit his/ her HBL parent branch for account reactivations in exceptional cases as may be advised by branch staff or HBL Contact Center representative. For further information, you may contact any nearest HBL Branch or call HBL Contact Center 111-444-425	Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last fifteen years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact Branch Manager/Branch Operations Manager of your parent HBL branch. Account Closure: In order to close your account, please follow bank laid down internal procedures, individual customer for further guidance should contact nearest HBL branch manager/Branch operation manager. For company account please contact your parent branch. Please note that: 'As Per Base Account' refers to the deposit account selected in the deposit accounts' Key Fact Statement. Particulars of the same account will be followed. How can you get assistance or make a complaint? Habib Bank Limited, Complaint Management Unit 9th Floor, HBL Plaza, I.I Chundrigar Road, Karachi, Pakistan Helpline: 021-111-444-425 For Inquiries: customer.care@hbl.com For Complaints: customer.complaints@hbl.com Website: www.hbl.com If you are not satisfied with our response, you may contact : If the Bank resolution is not satisfactory or there is no response provided within 45 days, then a complaint may be filed with the Banking Mohtasib Pakistan. https://www.bankingmohtasib.gov.pk/complaints.php or drop a written complaint at, Banking Mohtasib, Pakistan 5th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kiyani Road, Karachi Tel No.: 92-21-99217334-38 Email: Info@bankingmohtasib.gov.pk Website: www.bankingmohtasib.gov.pk

(Portion to be used for the post-shopping stage)

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT

Customer Name

Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Base Product Chosen

Mandate of Account

Single/Joint/Either or Survivor

Address

Contact No.

Mobile No.

Email Address

Customer Signature

Signature Verified

I confirm that I have received a copy of the Key Fact Statement

تاریخ

Y Y Y Y M M D D

دن

مہینہ

سال

حبیب بینک لمیٹڈ،

براچ۔

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ دوسرے بینکوں کی جانب سے مختلف اکاؤنٹس کے لیے پیش کی جانے والی آفر کا موازنہ کرنے کے لیے بھی آپ اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کرنے کے لیے دوسرے بینکوں سے KFS وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات

یہ معلومات مندرجہ بالا تاریخ تک درست ہے۔ خدمات، فیسیں اور مارک اپ کی شرحیں ششماہی (31 دسمبر 2025) کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اپ ڈیٹ شدہ فیس / چارجز کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں یا ہماری براؤنچر پرنٹسریف لاسکتے ہیں۔

HBL پریمیم پراپوزیشن

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ پریمیم کے لیے کی فیٹ اسٹیٹمنٹ کا اطلاق سبسکرائب کیے گئے ڈپازٹ اکاؤنٹ پراڈکٹ کے اوپر ہوگا۔

اس ڈپازٹ اکاؤنٹ کو ہمیں اکاؤنٹ، شمار کیا جائے گا اور پریمیم ٹیلنگ کے سبب ہیں اکاؤنٹ کے فوائد اور چارجز تبدیل اور کم یا زیادہ ہوں گے۔

پریمیم کی فیٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں اکاؤنٹ کی کی فیٹ اسٹیٹمنٹ پر بھی دیکھ لیے جائیں گے۔

HBL پریمیم کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ www.hbl.com کا وزٹ کریں یا کسی بھی HBL پریمیم چٹ پوائنٹ کا وزٹ کریں۔

تفصیلات		کرنٹ	سیونگ
		HBL پریمیم کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹس	HBL پریمیم سیونگ ڈپازٹ اکاؤنٹس
کرنسی (روپیہ، امریکی ڈالر، یورو، وغیرہ)		روپے، امریکی ڈالر، یورو، برطانوی پاؤنڈ	روپے، امریکی ڈالر، یورو، برطانوی پاؤنڈ
اکاؤنٹ کے لیے کم بیلنس (اگر کوئی ہے تو، اس حوالے سے بتائیں)	کھولنے کے لیے	2,000,000 روپے یا اس کے برابر غیر ملکی کرنسی	7,000,000 روپے یا اس کے برابر غیر ملکی کرنسی
	سہ ماہی اوسط بیلنس	2,000,000 روپے یا اس کے برابر غیر ملکی کرنسی	7,000,000 روپے یا اس کے برابر غیر ملکی کرنسی
کیا منافع اکاؤنٹ پر ادا کیا جاتا ہے (ہاں / نہیں) (قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط ہے)		نہیں	ہاں
انڈیکسڈ پرافٹ ریٹ (%)		نا قابل اطلاق	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
پرافٹ ہیمنٹ فریکوئنسی (روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)		نا قابل اطلاق	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
فراہم کردہ مثال: (ہر 1000 روپے پر، آپ مقررہ معاویہ میں۔۔۔۔۔ روپے کما سکتے ہیں)		نا قابل اطلاق	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
پری میچور / ارلی انکیٹمنٹ / ودھ ڈرال فیس (اگر کوئی ہے تو، رقم / شرح مہیا کریں)		نا قابل اطلاق	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*

دیگر معیارات / زیر انتظام اثاثہ جات (AUM): میوچل فنڈز - (20 ملین روپے یا 10 ملین روپے بعد 1 ملین روپے سی اے) ، ہنگل پریمیم - (10 ملین روپے) ، بینک شولنس - (5 لاکھ روپے بعد 1 ملین روپے سی اے) ، مورگنج فنانسنگ - (20 ملین روپے)

** ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق سے مراد ڈپازٹ اکاؤنٹس کی فیٹ اسٹیٹمنٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے۔ اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کو فائل کیا جائے گا۔

اگر پہلے سے طے شدہ پریمیم معیار کے مطابق بیلنس برقرار نہیں رکھا جاتا ہے جس کی وضاحت یہاں اور SOBC میں کی گئی ہے تو پریمیم اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کو ریگولر اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) میں ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے گا۔

** سروس چارجز

اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لیے مرکزی سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ ہماری براؤنچر یا ہماری ویب سائٹ www.hbl.com سے یا 24 گھنٹے پریمیم فون ہیلپ لائن 111-444-425 پر کال کر کے تمام بینک چارجز (SoBc) کی مکمل فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکس کے علاوہ ہیں۔

سرورسز	موڈز	کرنٹ	سیونگ
		HBL پریمیم کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹس	HBL پریمیم سیونگ ڈپازٹ اکاؤنٹس
کیش ٹرانزیکشن	انٹرنیٹ	0	0
	انٹرا-بنکی	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	اپنے ATM سے ودھ ڈرال	0	0
	دوسرے بینک کا ATM	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
ایس ایم ایس الرٹس	ADC / ڈیجیٹل	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	کلیئرنگ	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	دوسرے ٹرانزیکشنز کے لیے	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	ماسٹر ورلڈ	50% چھوٹ	50% چھوٹ
چیک بک کاپی بارامفٹ	اجرا	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	انسٹا ہیمنٹ	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	لوڈ چیک	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*

** ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق سے مراد ڈپازٹ اکاؤنٹس کی فیٹ اسٹیٹمنٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے۔ اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کو فائل کیا جائے گا۔

